

ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے پروگرام برائے نیو یارک کی فیملیز

نیو یارک سٹی اہل قرار پانے والی بہت ساری فیملیز کے لیے مفت یا کم قیمت پر نگہداشت طفل اور تعلیمی پروگرام پیش کرتا ہے۔ یہ پروگرام پیدائش سے لے کر 13 سال (یا معذور بچوں کے لیے 19 سال تک)، پورے سال بچوں کے لیے نگہداشت اور تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ اہلیت آپ کی فیملی کی آمدنی اور نگہداشت کی وجہ کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اگر آپ اہل قرار پاتے اور سیٹ دستیاب ہے تو، آپ کا بچہ کبھی بھی شروع کر سکتا ہے۔

اختیارات

3-K فار آل

NYC فیملیز مفت، پورے دن، اعلیٰ معیار کے Pre-K فار آل کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام تمام اسکول ڈسٹرکٹس میں فیملیز کے لیے دستیاب ہیں، لیکن کچھ ڈسٹرکٹس میں سیٹیں محدود ہیں۔ آپ کے بچے کے تین سال کے ہونے والے کیلنڈر سال میں فیملیز 3-K کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔

عمر: 3 سال

پروگرام: مرکز، اسکول، اور گھر پر مبنی
گھنٹے: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/3k

EarlyLearn

DOE کے EarlyLearn پروگرام، بشمول ارلی ہیڈ اسٹارٹ (Early Head Start)، شیر خوار اور نونہالوں کے لیے ابتدائی نگہداشت اور تعلیم فراہم کرتے ہیں۔

عمر: 0 - 2 سال۔

پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی
گھنٹے: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/earlylearn

چائلڈ کیئر واؤچرز

چائلڈ کیئر واؤچرز پورے شہر میں گھر پر مبنی اور مرکز پر مبنی سیکڑوں فراہم کنندگان کے پاس نگہداشت طفل کی لاگتوں کی تلافی کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ واؤچرز کو نگہداشت کے مدنظر منظور شدہ رشتہ داروں، پڑوسیوں، یا دوستوں کو ادائیگی کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔

عمر: 6 ہفتے - 13 سال (یا معذور بچوں کے لیے 19 سال کی عمر تک)
پروگرام: مرکز اور گھر پر مبنی
گھنٹے: پورے سال، روزانہ 24 گھنٹے تک

nyc.gov/childcarevouchers

Pre-K فار آل (Pre-K for All)

NYC فیملیز مفت، پورے دن، اعلیٰ معیار کے Pre-K فار آل کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ آمدنی یا ضروریات سے قطع نظر، یہ پروگرام تمام اسکول ڈسٹرکٹس میں تمام فیملیز کے لیے دستیاب ہیں۔ آپ کے بچے کے چار سال کے ہونے والے کیلنڈر سال میں فیملیز Pre-K کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔

عمر: 4 سال

پروگرام: مرکز اور اسکول مبنی
گھنٹے: پورے سال، روزانہ 10 گھنٹے تک

www.nyc.gov/prek

ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے پروگرام برائے نیو یارک کی فیملیز

اہلیت

آپ کی فیملی ACS چائلڈ کیئر واؤچر یا DOE Head Start ، EarlyLearn یا توسیعی دن/سال (Extended Day/Year) پروگرام کے لیے اہل قرار پا سکتی ہے (اگر 1) آپکی فیملی کی آمدنی وفاقی سطح افلاس کے 300% پر یا اس سے کم ہے (2) اور آپ کے پاس نگہداشت صحت طلب کرنے کی درج ذیل میں سے ایک وجہ ہے: آپ فی ہفتہ 10+ گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کسی تعلیمی یا حرفتی تربیتی پروگرام میں ہیں، آپ کو کام کی تلاش ہے، عارضی رہائش میں رہتے ہیں، یا گھریلو تشدد کے مدنظر خدمات میں جا رہے ہیں۔ آپ اہلیت چیک کرنے کے لیے access.nyc.gov پر ایک مختصر سروے مکمل کر سکتے ہیں

درخواست کیسے دیں

EarlyLearn، 3K فار آل، یا Pre-K فار آل کے لیے:

ایک پروگرام شناخت کریں

• EarlyLearn، 3K، اور Pre-K فار آل پروگراموں کی ڈائریکٹری کے لیے www.MySchools.nyc/schools ملاحظہ کریں۔

• "More Filters" (مزید فلٹرز) والا ٹیب استعمال کریں اور "Head Start" (ہیڈ اسٹارٹ) یا "Extended Day/Year" (توسیعی دن/سال) منتخب کریں اگر آپ کو پورے سال (بشمول موسم گرما کے مہینوں کے دوران) نگہداشت فراہم کرنے والے پروگراموں میں دلچسپی ہو

• 2009-935-718 پر کال کریں، ای میل کریں: ES_Enrollment@schools.nyc.gov یا مدد کے لیے DOE فیملی ویلکم سنٹر (Family Welcome Center) پر تشریف لے جائیں

درخواست دیں برائے:

• Early Learn، 3K فار آل یا PreK فار آل کے توسیعی دن/سال کے پروگرام

ہیڈ اسٹارٹ پروگراموں کے لیے:

■ براہ راست پروگرام کی معرفت درخواست دیں (ہدایات کے لیے ان کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں یا کال کریں)۔

دیگر تمام پروگراموں کے لیے:

■ ایک درخواست فارم پُر کریں: bit.ly/childcareeligibility

■ اپنی درخواست اپنے پروگرام کے پاس یا DOE کے پاس

پر اسے ای میل کر کے یا CCapplication@schools.nyc.gov پر اسے ای میل کر کے یا Family Welcome Center, 333 7th Avenue 12th floor New York, NY, 10001 کے پتے پر ڈاک سے بھیج کر جمع کرائیں

درخواست دیں برائے:

• 3K فار آل یا PreK فار آل کے اسکول دن/سال پروگرام

■ براہ راست 3K یا Pre-K پروگرام کو کال کر کے فوری شروعات یا سیٹ کب دستیاب ہو سکتی ہے اس بارے میں جانیں۔ یہ پروگرام اہلیت کی کسی غور و خوض کے طالب نہیں ہیں!

چائلڈ کیئر واؤچرز کے لیے (Child Care Vouchers):

ایک پروگرام شناخت کریں

• رجسٹرڈ ہوم بیسڈ فراہم کنندگان کی ڈائریکٹری دیکھنے کے لیے DOHMH کے چائلڈ کیئر کنیکٹ پورٹل پر لائسنس یافتہ ابتدائی نگہداشت اور تعلیم کے مراکز، اسکول پر مبنی پروگرامز، اور اجازت یافتہ سمر کیمپس یا OCFS کے چائلڈ کیئر سرچ ٹول پر جائیں۔

• اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس پروگرام میں جانا ہے تو کوئی بات نہیں - آپ یہ معلومات شامل کیے بغیر نگہداشت طفل کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔

• مدد کے لیے 835-7610 (212) پر کال کریں۔

درخواست دیں

• ایک درخواست فارم پُر کریں

<https://www1.nyc.gov/site/acs/early-care/forms.page>

• اپنا درخواست فارم ACS کے پاس NYC Children - EDU, PO Box 40, Maplewood, N.J., 07040 کے پتے پر ڈاک سے بھیج کر جمع کرائیں۔

• اگر اہل ہیں تو، آپ کو ایک واؤچر جاری کیا جائے گا جسے آپ مکمل کر کے ACS کو واپس بھیجیں گے۔